

Eph

Chapter 5

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ Θεοῦ, ὡς τέκνα ἀγαπητά,
بنو پس پیروکار کے خدا جیسے بچے پیارے
[G1096](#) [G3767](#) [G3402](#) [G3588](#) [G2316](#) [G5613](#) [G5043](#) [G0027](#)

چلیں۔ پر نمونے کے اُس لئے اِس ہیں بچے پیارے کے اللہ آپ چونکہ

2 καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ
اور چلو میں محبت میں جیسا کہ بھی وہ مسیح نے محبت کی ہمیں اور
[G2532](#) [G4043](#) [G1722](#) [G0026](#) [G2531](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5547](#) [G0025](#) [G1473](#) [G2532](#)

παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ Θεῷ, εἰς
دے دیا آپ کو اپنے لیے ہمارے نذر اور قربانی اُس خدا کے لیے
[G3860](#) [G1438](#) [G5228](#) [G1473](#) [G4376](#) [G2532](#) [G2378](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1519](#)

ὁσμὴν εὐωδίας.

خوشبو مہکتی
[G3744](#) [G2175](#)

اور دیا کر قربان حضور کے اللہ لئے ہمارے کو آپ اپنے کر رکھ محبت سے ہم نے اُس کیونکہ گزاری۔ نے مسیح جیسے گزاریں یوں زندگی میں روح کی محبت آئی۔ پسند کو اللہ خوشبو کی جس گیا بن قربانی ایسی یوں

3 Πορνεία δὲ, καὶ ἀκαθαρσία πᾶσα, ἣ πλεονεξία, μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν
زنا لیکن اور ناپاکی ہر یا لالچ اور نام لیا جائے اور نہ میں
[G4202](#) [G1161](#) [G2532](#) [G0167](#) [G3956](#) [G2228](#) [G4124](#) [G3366](#) [G3687](#) [G1722](#)

ὕμῃν, καθὼς πρέπει ἁγίοις;
تم جیسا کہ ہے مناسب مقدسوں
[G4771](#) [G2531](#) [G4241](#) [G0040](#)

ہے۔ نہیں مناسب لئے کے مقدسین کے اللہ یہ کیونکہ ہو، نہ تک ذکر کا لالچ یا ناپاکی کی طرح ہر زنا کاری، درمیان کے آپ

4 καὶ αἰσχροτήs, καὶ μωρολογία, ἣ εὐτραπελία, ἃ οὐκ ἀνήκεν; ἀλλὰ
اور بے شرمی اور بیوقوفی باتیں یا بیہودہ مذاق جو نہیں مناسب بلکہ
[G2532](#) [G0151](#) [G2532](#) [G3473](#) [G2228](#) [G2160](#) [G3739](#) [G3756](#) [G0433](#) [G0235](#)

μᾶλλον εὐχαριστία.

بلکہ شکرگزاری
[G3123](#) [G2169](#)

چاہئے۔ ہونی شکرگزاری جگہ کی ان نہیں۔ ٹھیک بھی باتیں گندی یا احمقانہ ناک، شرم طرح اسی

5 τοῦτο γὰρ ἵστε, γινώσκοντες ὅτι πᾶς πόρνος, ἢ ἀκάθαρτος, ἢ
یہ کیونکہ ہو جانتے ہوئے جانتے ہوئے کہ ہر زنا کار یا ناپاک یا
[G3778](#) [G1063](#) [G1492](#) [G1097](#) [G3754](#) [G3956](#) [G4205](#) [G2228](#) [G0169](#) [G2228](#)

πλεονέκτηs, ὃ ἐστὶν εἰδωλόατρηs, οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ
لالچی جو ہے بت پرست نہیں رکھتا میراث میں اُس بادشاہت
[G4123](#) [G3739](#) [G1510](#) [G1496](#) [G3756](#) [G2192](#) [G2817](#) [G1722](#) [G3588](#) [G0932](#)

τοῦ Χριστοῦ, καὶ Θεοῦ.
کے مسیح اور خدا
[G3588](#) [G5547](#) [G2532](#) [G2316](#)

ہے۔پرستی بُت کی قسم ایک تو (لاچ گے پائیں نہیں میراث میں بادشاہی کی اللہ اور مسیح لالچی یا ناپاک زناکار، کہ جائیں یقین کیونکہ

6 Μηδεις ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις; διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργή
کوئی-نہ تمہیں دھوکہ-دے خالی باتوں کے-ذریعے ان کیونکہ آتا-ہے وہ غضب
[G3367](#) [G4771](#) [G0538](#) [G2756](#) [G3056](#) [G1223](#) [G3778](#) [G1063](#) [G2064](#) [G3588](#) [G3709](#)

τοῦ Θεοῦ, ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας.
کے خدا پر اُن بیٹوں کے نافرمانی
[G3588](#) [G2316](#) [G1909](#) [G3588](#) [G5207](#) [G3588](#) [G0543](#)

ہے۔ہوتا نازل ہیں نافرمان جو پر اُن غضب کا اللہ سے وجہ کی باتوں ہی ایسی دے۔ نہ دھوکا سے الفاظ بے معنی کو آپ کوئی

7 μὴ οὖν γίνεσθε συμμετοχοὶ αὐτῶν;
نہ پس بنو ہم-شریک اُن-کے
[G3361](#) [G3767](#) [G1096](#) [G4830](#) [G0846](#)

ہیں۔کرتے یہ جو جائیں ہو نہ شریک میں اُن چنانچہ

8 ἦτε γὰρ ποτε σκότος, νῦν δὲ, φῶς ἐν Κυρίῳ; ὡς τέκνα φωτὸς
تھے کیونکہ کبھی اندھیرا اب لیکن روشنی میں خداوند جیسے بچے روشنی
[G1510](#) [G1063](#) [G4218](#) [G4655](#) [G3568](#) [G1161](#) [G5457](#) [G1722](#) [G2962](#) [G5613](#) [G5043](#) [G5457](#)

περιπατεῖτε--

چلو
[G4043](#)

گزاریں، زندگی طرح کی فرزند کے روشنی ہیں۔ روشنی میں خداوند آپ اب لیکن تھے، تاریکی آپ پہلے کیونکہ

9 ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ, καὶ δικαιοσύνῃ, καὶ
کیونکہ کیونکہ پھل کے روشنی میں بر بھلائی اور راستبازی اور
[G3588](#) [G1063](#) [G2590](#) [G3588](#) [G5457](#) [G1722](#) [G3956](#) [G0019](#) [G2532](#) [G1343](#) [G2532](#)

ἀληθείᾳ--

سچائی
[G0225](#)

ہے۔سچائی اور بازی راست بھلائی، کی طرح ہر پھل کا روشنی کیونکہ

10 δοκιμάζοντες τί ἐστὶν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ.
پرکھتے-ہوئے کیا ہے پسندیدہ اُس خداوند
[G1381](#) [G5101](#) [G1510](#) [G2101](#) [G3588](#) [G2962](#)

ہے۔پسند کچھ کیا کو خداوند کہ رہیں کرتے معلوم اور

11 καὶ μὴ συνκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάριοις τοῦ σκοτῶν, μᾶλλον
اور نہ شریک-ہو اُن کاموں اُن ہے-پھل کے اندھیرے بلکہ
[G2532](#) [G3361](#) [G4790](#) [G3588](#) [G2041](#) [G3588](#) [G0175](#) [G3588](#) [G4655](#) [G3123](#)

δὲ καὶ ἐλέγχετε;
لیکن بھی ملامت-کرو
[G1161](#) [G2532](#) [G1651](#)

لائیں۔میں روشنی انہیں بلکہ لیں نہ حصہ میں کاموں بے پھل کے تاریکی

12 τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα ὑπ' αὐτῶν, αἰσχρόν ἐστὶν καὶ λέγειν.
وہ کیونکہ خفیہ ہونے-والے سے اُن شرمناک ہے بھی کہنے-کو
[G3588](#) [G1063](#) [G2931](#) [G1096](#) [G5259](#) [G0846](#) [G0150](#) [G1510](#) [G2532](#) [G3004](#)

ہے۔بات کی شرم بھی کرنا ذکر کا اُس ہیں کرتے میں پوشیدگی لوگ یہ کچھ جو کیونکہ

- 13 τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς, φανεροῦνται πᾶν γὰρ;
 وہ لیکن سب-کچھ ملامت-کیے-جانے-والے سے روشنی ظاہر-ہوتے-ہیں سب کیونکہ
[G3588](#) [G1161](#) [G3956](#) [G1651](#) [G5259](#) [G3588](#) [G5457](#) [G5319](#) [G3956](#) [G1063](#)
- τὸ φανερούμενον φῶς ἐστίν.
 وہ ظاہر-کیا-جانے-والا ہے روشنی
[G3588](#) [G5319](#) [G5457](#) [G1510](#)

ہے-جاتا لایا میں روشنی اُسے جب ہے جاتا ہو ہے نقاب کچھ سب لیکن

- 14 διὸ λέγει, Ἔγειρε, ὁ καθεύδων, καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ
 اس-لیے کہتا-ہے جاگ وہ سونے-والے اور اُٹھ سے اُن مُردوں اور
[G1352](#) [G3004](#) [G1453](#) [G3588](#) [G2518](#) [G2532](#) [G0450](#) [G1537](#) [G3588](#) [G3498](#) [G2532](#)
- ἐπιφαύσει σοὶ ὁ Χριστός.
 چمکے-گا تجھ-پر وہ مسیح
[G2017](#) [G4771](#) [G3588](#) [G5547](#)

چمکے پر تجھ مسیح تو اُٹھ، جی سے میں مُردوں اُٹھ! جاگ والے، سونے [] ہے، جاتا کہا لئے اس ہے۔ جاتا ہو روشن وہ ہے جاتا لایا میں روشنی جو کیونکہ
 گا۔

- 15 Βλέπετε οὖν ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ' ὡς σοφοί,
 دیکھو پس غور-سے کیسے چلتے-ہو نہ جیسے جیسے بلکہ جیسے عقلمند
[G0991](#) [G3767](#) [G0199](#) [G4459](#) [G4043](#) [G3361](#) [G5613](#) [G0781](#) [G0235](#) [G5613](#) [G4680](#)

طرح-کی لوگوں دار سمجھ یا ہے سمجھ — ہیں گزارتے طرح کس زندگی آپ کہ دیں دھیان پر اس سے احتیاط بڑی چنانچہ

- 16 ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρὸν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσιν.
 فائدہ-اُٹھتے-ہوئے وہ وقت کہ وہ دن بُرے ہیں
[G1805](#) [G3588](#) [G2540](#) [G3754](#) [G3588](#) [G2250](#) [G4190](#) [G1510](#)

ہیں۔ بُرے دن کیونکہ اُٹھائیں، فائدہ پورا سے موقع ہر

- 17 διὰ τοῦτο, μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνίετε τί τὸ θέλημα τοῦ
 اس-لیے اس نہ بنو ہے-وقوف بلکہ سمجھو کیا وہ مرضی کے
[G1223](#) [G3778](#) [G3361](#) [G1096](#) [G0878](#) [G0235](#) [G4920](#) [G5101](#) [G3588](#) [G2307](#) [G3588](#)

Κυρίου.

خداوند
[G2962](#)

سمجھیں۔ کو مرضی کی خداوند بلکہ بنیں نہ احمق لئے اس

- 18 καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἶνω, ἐν ᾧ ἐστὶν ἄσωτία. ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν
 اور نہ متوالے-ہو شراب-سے میں جس ہے بدچلنی بلکہ بھرتے-ربو میں
[G2532](#) [G3361](#) [G3182](#) [G3631](#) [G1722](#) [G3739](#) [G1510](#) [G0810](#) [G0235](#) [G4137](#) [G1722](#)

Πνεύματι,

روح
[G4151](#)

جائیں۔ ہوتے معمور سے القدس روح بجائے کے اس ہے۔ عیاشی انجام کا اس کیونکہ جائیں، ہو نہ متوالے میں شراب

- 19 λαλοῦντες ἑαυτοῖς [ἐν] ψαλμοῖς, καὶ ὕμνοις, καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς;
 بولتے-ہوئے سے ایک-دوسرے-سے میں زبوروں اور حمدوں اور اور گیتوں روحانی
[G2980](#) [G1438](#) [G1722](#) [G5568](#) [G2532](#) [G5215](#) [G2532](#) [G5603](#) [G4152](#)

ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ;
 گاتے-ہوئے اور سرود-کرتے-ہوئے اُس دل تمہارے اُس خداوند
[G0103](#) [G2532](#) [G5567](#) [G3588](#) [G2588](#) [G4771](#) [G3588](#) [G2962](#)

کریں۔ سرائی نغمہ اور گائیں گیت لئے کے خداوند میں دلوں اپنے کریں۔ افزائی حوصلہ کی دوسرے ایک سے گیتوں روحانی اور ثنا و حمد زیوروں،

20 εὐχαριστοῦντες πάντοτε, ὑπὲρ πάντων, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν, Ἰησοῦ
 شکر-کرتے-ہوئے ہمیشہ کے-لیے سب-کچھ میں نام کے خداوند ہمارے یسوع
 G2168 G3842 G5228 G3956 G1722 G3686 G3588 G2962 G1473 G2424

Χριστοῦ; τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ;
 مسیح اُس خدا اور باپ
 G5547 G3588 G2316 G2532 G3962

کریں۔ شکر کا باپ خدا لئے کے چیز ہر میں نام کے مسیح عیسیٰ خداوند ہمارے وقت ہر ہاں،

21 ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ.
 تابع-ہوتے-ہوئے ایک-دوسرے میں خوف مسیح
 G5293 G0240 G1722 G5401 G5547

رہیں۔ تابع کے دوسرے ایک میں خوف کے مسیح

22 Αἱ γυναῖκες, τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ὡς τῷ Κυρίῳ,
 بیویاں اُن اپنے شوہروں جیسے اُس خداوند
 G3588 G1135 G3588 G2398 G0435 G5613 G3588 G2962

رہیں۔ بھی تابع کے شوہر اپنے طرح اُسی ہیں تابع کے خداوند آپ طرح جس بیویو،

23 ὅτι ἀνὴρ ἐστὶν κεφαλὴ τῆς γυναίκος, ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς
 کہ شوہر ہے سر کے بیوی جیسے بھی وہ مسیح سر کے
 G3754 G0435 G1510 G2776 G3588 G1135 G5613 G2532 G3588 G5547 G2776 G3588

ἐκκλησίας -- αὐτὸς σωτὴρ τοῦ σώματος.
 کلیسیا وہی نجات-دہندہ کے بدن
 G1577 G0846 G4990 G3588 G4983

ہے۔ دی نجات نے اُس جسے ہے بدن کا مسیح جماعت ہاں، کا۔ جماعت اپنی مسیح جیسے ہے سر کا بیوی اپنی ہی ویسے شوہر کیونکہ

24 ἀλλὰ ὡς ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτως καὶ αἱ γυναῖκες
 بلکہ جیسے وہ کلیسیا تابع-ہے اُس مسیح یوں بھی وہ بیویاں
 G0235 G5613 G3588 G1577 G5293 G3588 G5547 G3779 G2532 G3588 G1135

τοῖς ἀνδράσιν ἐν παντί.
 شوہروں میں سب-کچھ
 G3588 G0435 G1722 G3956

رہیں۔ تابع کے شوہروں اپنے بھی بیویاں طرح اُسی ہے تابع کے مسیح جماعت طرح جس اب

25 Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν
 وہ شوہرو محبت-کرو اُن بیویوں جیسا-کہ بھی وہ مسیح-نے محبت-کی وہ
 G3588 G0435 G0025 G3588 G1135 G2531 G2532 G3588 G5547 G0025 G3588

ἐκκλησίαν, καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς,
 کلیسیا اور اپنے-آپ-کو دے-دیا کے-لیے اُس-کے
 G1577 G2532 G1438 G3860 G5228 G0846

کیاقربان لئے کے اُس کو آپ اپنے کر رکھ محبت سے جماعت اپنی نے مسیح طرح جس طرح اُسی بالکل رکھیں، محبت سے بیویوں اپنی شوہرو،

26 ἵνα αὐτὴν ἀγιάσῃ, καθάρισας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι,
 تاکہ اُسے پاک-کرے پاک-کر-کے سے غسل کے پانی میں کلام
 G2443 G0846 G0037 G2511 G3588 G3067 G3588 G5204 G1722 G4487

دیاکر صاف پاک کر دھو سے پاک کلام اُسے نے اُس کرے۔ مُقدّس و مخصوص لئے کے اللہ اُسے تاکہ

27 ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον, τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσιν σπίλον,
 تاکہ پیش-کرے وہ اپنے-آپ-کو جلالی وہ کلیسیا نہ رکھنے-والی داغ
[G2443](#) [G3936](#) [G0846](#) [G1438](#) [G1741](#) [G3588](#) [G1577](#) [G3361](#) [G2192](#) [G4696](#)

ἡ ῥυτίδα, ἡ τι τῶν τοιούτων; ἀλλ' ἵνα ἡ ἅγια καὶ ἄμωμος.
 یا جھری یا کوئی کے ایسی بلکہ تاکہ ہو مقدس اور عیب
[G2228](#) [G4512](#) [G2228](#) [G5100](#) [G3588](#) [G5108](#) [G0235](#) [G2443](#) [G1510](#) [G0040](#) [G2532](#) [G0299](#)

نقص۔ کا قسم اور کسی نہ جھری، کوئی نہ ہو، داغ کوئی نہ میں جس ہو، بے الزام اور مقدس جلالی، جو کرے پیش جماعت ایسی ایک کو آپ اپنے تاکہ

28 οὕτως ὀφείλουσιν καὶ οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας, ὡς
 یوں چاہیے بھی وہ شوہر محبت-کریں اُن اپنی بیویوں جیسے
[G3779](#) [G3784](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0435](#) [G0025](#) [G3588](#) [G1438](#) [G1135](#) [G5613](#)

τὰ ἑαυτῶν σώματα. ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα, ἑαυτὸν ἀγαπᾷ.
 وہ اپنے بدنوں وہ-جو ہے محبت-کرتا-ہے وہ اپنی بیوی اپنے-آپ-سے محبت-کرتا-ہے
[G3588](#) [G1438](#) [G4983](#) [G3588](#) [G0025](#) [G3588](#) [G1438](#) [G1135](#) [G1438](#) [G0025](#)

جو کیونکہ ہیں۔ رکھتے سے جسم اپنے جیسی رکھیں محبت ویسی سے اُن وہ ہاں، رکھیں۔ محبت ہی ایسی سے بیویوں اپنی وہ کہ بے فرض کا شوہروں
 ہے۔ رکھتا محبت ہی سے آپ اپنے وہ ہے رکھتا محبت سے بیوی اپنی

29 οὐδεὶς γὰρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλὰ ἐκτρέφει καὶ
 کوئی-نہیں کیونکہ کبھی وہ اپنے جسم نفرت-کی بلکہ پالتا-ہے اور
[G3762](#) [G1063](#) [G4218](#) [G3588](#) [G1438](#) [G4561](#) [G3404](#) [G0235](#) [G1625](#) [G2532](#)

θάλλει αὐτήν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν:
 لاز-پیار-کرتا-ہے اُسے جیسا-کہ بھی وہ مسیح وہ کلیسیا
[G2282](#) [G0846](#) [G2531](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5547](#) [G3588](#) [G1577](#)

ہے۔ کرتا کچھ بھی لے کے جماعت اپنی بھی مسیح ہے۔ پالتا اور کرتا مہیا خوراک اُسے بلکہ کرتا نہیں نفرت سے جسم اپنے بھی کوئی آخر

30 ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ, <ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, καὶ ἐκ
 کہ اعضا ہیں کے بدن اُس-کے سے اُس سے اُس جسم اُس-کے اور سے
[G3754](#) [G3196](#) [G1510](#) [G3588](#) [G4983](#) [G0846](#) [G1537](#) [G3588](#) [G4561](#) [G0846](#) [G2532](#) [G1537](#)

τῶν ὀστέων αὐτοῦ>.
 اُن ہڈیوں اُس-کی
[G3588](#) [G3747](#) [G0846](#)

ہیں۔ اعضا کے بدن کے اُس ہم کیونکہ

31 ἀντὶ τούτου, καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ
 کہ-بدلے اس چھوڑے-گا انسان وہ باپ اور وہ ماں اور
[G0473](#) [G3778](#) [G2641](#) [G0444](#) [G3588](#) [G3962](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3384](#) [G2532](#)

προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς
 چمٹے-گا کی-طرف اُس بیوی اپنی اور ہوں-گے وہ دو میں
[G4347](#) [G4314](#) [G3588](#) [G1135](#) [G0846](#) [G2532](#) [G1510](#) [G3588](#) [G1417](#) [G1519](#)

σάρκα μίαν.
 جسم ایک
[G4561](#) [G1520](#)

ہیں۔ جاتے ہو ایک دونوں وہ ہے۔ جاتا ہو پیوست ساتھ کے بیوی اپنی کر چھوڑ کو باپ ماں اپنے مرد لے اس ہے، لکھا بھی میں مقدس کلام

32 τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν; ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν, καὶ εἰς
 وہ بھید یہ بڑا ہے میں لیکن کہتا ہوں میں مسیح اور میں
[G3588](#) [G3466](#) [G3778](#) [G3173](#) [G1510](#) [G1473](#) [G1161](#) [G3004](#) [G1519](#) [G5547](#) [G2532](#) [G1519](#)
 τὴν ἐκκλησίαν.
 وہ کلیسیا
[G3588](#) [G1577](#)

ہوں۔ کرتا پر جماعت کی اُس اور مسیح اطلاق کا اِس تو میں ہے۔ گہرا بہت راز یہ

33 πλὴν καὶ ὑμεῖς οἶ καθ' ἓνα, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα, οὕτως
 بہر حال بھی تم وہ کے-مطابق ایک ہر-ایک وہ اپنی بیوی یوں
[G4133](#) [G2532](#) [G4771](#) [G3588](#) [G2596](#) [G1520](#) [G1538](#) [G3588](#) [G1438](#) [G1135](#) [G3779](#)
 ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν; ἢ δὲ γυνή, ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα.
 محبت-کرے جیسے اپنے-آپ وہ لیکن بیوی تاکہ عزت-کرے وہ شوہر
[G0025](#) [G5613](#) [G1438](#) [G3588](#) [G1161](#) [G1135](#) [G2443](#) [G5399](#) [G3588](#) [G0435](#)

کرے۔ عزت کی شوہر اپنے بیوی پر اور ہے۔ رکھتا سے آپ اپنے وہ طرح جس رکھے محبت طرح اِس سے بیوی اپنی شوہر پر ہے۔ بھی پر آپ اطلاق کا اِس لیکن